

41950 - کیا حج پر جانے کے لیے والدین کی اجازت لینا واجب ہے ؟

سوال

کیا حج پر جانے کے لیے والدین کی اجازت لینا واجب ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

" اگر فرضی حج ہو تو پھر والدین کی نہ تو رضامندی کی شرط ہے اور نہ ہی ان کی اجازت لینا، بلکہ اگر وہ اسے حج کرنے سے منع کریں اور حج فرضی ہو تو اس کے لیے حج کرنا واجب ہے، اور اس میں اسے ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور اگر وہ دونوں تجھے میرے ساتھ شَرک کرنے پر ابھاریں جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کی اطاعت نہ کر، اور دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو لقمان (15).

اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوسکتی "

لیکن اگر حج نفلی ہو تو اسے مصلحت کو دیکھنا چاہیے، اگر اس کی ماں اور باپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اور صبر نہیں کر سکتے کہ وہ ان سے غائب ہو تو پھر ان کے پاس رہنا اولیٰ اور بہتر ہے۔

کیونکہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت مانگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا:

" کیا تیرے والدین زندہ ہیں ؟ "

تو اس شخص نے جواب میں عرض کیا: جی ہاں۔

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" ان دونوں میں جہاد کرو "

لہذا فرضی حج میں ان کی اطاعت نہیں کی جائیگی، اور نفلی حج میں دیکھا جائے گا کہ مصلحت کس میں زیادہ ہے "

انتہی

واللہ اعلم .